

صَلُّوا عَلَيَّ لَمْ تَكُنْ لِي نَبِيًّا

# زَادُ السَّعِيدِ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا  
اشرف علی صاحب تھانوی زوالہ نقوی

مع فضائل و خواص درود شریف

از

حضرت مولانا فضل الرحمن مدظلہ العالی  
صاحب

ہب تم جامعہ اشرفیہ لاہور

اقوال اشرفیہ پاکستانی

40 اڈیشن، لاہور

موبائل: 0333-4125300, 0300-4420434



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
التماس برائے ایصالِ ثواب

قارئین سے التماس ہے کہ اس خوبصورت مستند گلدستہ  
درود پاک ”زاد السعید“ کی تلاوت کر نیکی بعد ہمارے

والد محترم جناب شاہ ولی صاحب مرحوم

اور والدہ محترمہ فضل نور صاحبہ مرحومہ

کیلئے ایصالِ ثواب اور بخشش کی دعا فرمادیں۔ شکر یہ

———— طالب دعا ————

محمد اکرم، عبدالخالق

اور پسماندگان مرحوم شاہ ولی صاحب

تاریخ اشاعت چہارم فروری 2011ء تعداد 5000

صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

زَادَ الْعَدُوَّ

فَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْحَبِيبِ  
مِنْ لَدُنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَأَاهُ كَاتِبٌ

بَاهْتِصَامٌ

حَافِظُ فَضْلِ الرَّحْمَنِ بِمِثْلِ الْعَالِي

٠٣٣٣-٤٢١٠٩٨٥

## پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

قارئین کرام یہ خوبصورت گلدستہ ”زاوالبیعد“ صلوٰۃ و سلام پر مشتمل ہے جس کے بارے میں خود حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی مجدد علیہ نے فرمایا: جس کا مفہوم یہ ہے کہ ”جو صیغہ صلوٰۃ و سلام کے احادیث میں آئے ہیں ان میں سے ۴۰ صیغے پیش کئے جاتے ہیں، جن میں پچیس (۲۵) صلوٰۃ کے اور پندرہ (۱۵) سلام کے ہیں۔ گویا یہ مجموعہ درود شریف کی چہل حدیث ہے جس کے بارے میں بشارت آئی ہے جو شخص امر دین کے متعلق چالیس حدیثیں میری امت کو پہنچا دے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کی جماعت میں اٹھائیں گے اور میں اُس کا شفیع ہوں گا۔“

احقر نے مزید نفع اور برکت کے لئے ہر صفحہ پر درود پاک کی فضیلت کی احادیث لکھ دی ہیں جن کی تعداد بھی چالیس ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا دمرتبہ چہل حدیث والی بشارت کو حاصل کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین!

آخر میں قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## صیغہ شریفی

۱ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی \* (سورہ نمل)

سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر۔

۲ سَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ \* (سورہ صفات کے تحت پیر)

سلام ہو رسولوں پر۔

چہل حدیث مثل بر صلوٰۃ و سلام  
صیغہ صلوٰۃ

۱ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما

الْمُقَرَّبَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ \* (طبرانی)

اور آپ کو ایسے ٹھکانے پر پہنچا جو تیرے نزدیک مقرب ہو

فضائل خواص زہود شریف ۱۱ ارشاد فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

”جو اس درود شریف کو پڑھے، میری شفاعت اس پر واجب اور ضرور رہی ہے“

۲ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الْقَائِمَةُ وَالصَّلَاةُ

اے اللہ (قیامت تک) قائم رہنے والی اس پکار اور نافع نماز

النَّافِعَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّي رِضًا لَا

کے مالک درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ سے اس طرح رضی

تَسْخَطُ بَعْدَهَا أَبَدًا \* (مسند احمد)

ہو جا کہ اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو۔

۳ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میرے بندے اور رسول ہیں اور

صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

درود نازل فرما سارے مومنین اور مومنات اور مسلمان

وَالْمُسْلِمَاتِ \* (ابن حبان)

وسلمات پر

۲ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص مؤذن کی آذان کے وقت یہ درود شریف پڑھے،

اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے“ ۳ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس شخص

کے پاس خیرات کرنے کو کوئی مال نہ ہو وہ اپنی دعا میں یہ درود شریف پڑھے، تو اس کیلئے باعث ترقیہ ہوگا“



۴ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور برکت

عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمَهُمْ مَّحَمَّدًا

نازل فرماتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت نازل فرماتے یا محمد صلی اللہ

وَ اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰی

علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے درود برکت و رحمت

اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ \* (تیسری)

سیدنا ابراہیمؑ پر نازل فرمایا، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۵ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے درود

عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ

نازل فرمایا آل سیدنا ابراہیمؑ پر، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما

۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "قیامت کے دن ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص

ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھے والا ہوگا" ۵ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "درود شریف کی

کثرت دنیا و آخرت کے سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی"

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (بخاری شریف)

ابراہیمؑ کی اولاد پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۶ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

لے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ،

تو نے درود نازل فرمایا آل سیدنا ابراہیمؑ پر، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور برکت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (مسلم شریف)

سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد پر، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جو ایک دفعہ درود شریف پڑے گا اللہ اس پر دس دفعہ رحمت

نازل فرمائیں گے"۔ تشریح: گویا کہ درود شریف کے پڑھنے والے پر رحمت کا معاملہ ہوگا، جس کا نتیجہ

حسن خاتمی کی شکل میں نصیب ہوگا۔





۷ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ،

تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیم پر بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ برکت نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح

بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (ابن ماجہ)

تو نے سیدنا ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۸ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے درود نازل

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

فرمایا سیدنا ابراہیم اور آل سیدنا ابراہیم پر بے شک تو ستودہ صفات

۷ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جمعہ کے روز جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر بیش

کیا جاتا ہے“ ۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل

علیہ السلام کی بددعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ (سبحان اللہ! کتاب بزرگ انعام ہے)



مَجِيدٌ، وَبَارِكٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بزرگ ہے اور برکت نازل فرمائینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ

بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (ناسی)

تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیمؑ پر بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۹ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

لے اللہ درود نازل فرمائینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

فرمائینا ابراہیمؑ پر اور برکت نازل فرمائینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (ابوداؤد)

جس طرح تو نے سیدنا ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے

۱۰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

لے اللہ درود نازل فرمائینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ

۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”درو شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے“

۱۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”درو شریف کی کثرت سے اللہ جل شانہ بندے کے

کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔“ تشریح: ان شاء اللہ درود شریف کی برکت سے ہر کام میں خیر نصیب ہوگی



صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ

تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیمؑ پر، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے، اے اللہ

بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ

برکت نازل فرمائی محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ سید محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے

إِلِٰهَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (ابوداؤد)

سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود نازل فرمائی محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ سید محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تو نے آلِ سیدنا ابراہیمؑ پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرمائی محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي

آلِ سید محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد پر برکت نازل

اللہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس کو

قرب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا“ تشریح: ان شاء اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ درود شریف

ذریعہ بنے گا قیامت کے روز حوض کوثر سے پانی پینے کا۔

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (مسلم شریف)

فماتى سارے جہانوں میں، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱۲) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا

لے اللہ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواجِ مطہرات اور ذریعہ پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

تو نے سینا ابراہیم کی اولاد پر درود نازل فرمایا اور بکت نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

آپ کی ازواجِ مطہرات اور ذریعہ پر جس طرح تو نے سینا ابراہیم کی اولاد پر بکت نازل فرمائی،

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (ابوداؤد شریف)

بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱۳) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

لے اللہ درود نازل فرمائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواجِ مطہرات اور ذریعہ پر

۱۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ”حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات

(درود شریف نمبر ۱۲) اسی طرح رب العالمین کے پاس سے نازل ہوئے ہیں“ ۱۳) ارشاد فرمایا

مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں



كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارَكْتَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

جس طرح تو نے سینا ابراہیمؑ کی اولاد پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرمائی محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

وَعَلَىٰ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِلٰى

اور آپؐ کی ازواجِ مطہراتؑ اور آپؐ کی ذریاتؑ پر جیسا کہ تو نے آل

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ \* (مسلم شریف)

ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱۴ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ

اے اللہ درود نازل فرمائی اکرم سینا محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپؐ کی ازواجِ مطہراتؑ پر

الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور آپؐ کی ذریاتؑ اور آپؐ کے اہل بیتؑ پر جیسا تو نے سینا

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ \* (ابوداؤد شریف)

ابراہیمؑ پر درود نازل فرمایا، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

اور ملائکہ اس کیلئے ستر بار دعا کرتے ہیں "۱۴ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

"جس شخص کو یہ پسند ہو کہ ہمارے گھرانے والوں پر درود شریف پڑھتے وقت ثواب کا پورا ایمان لے

تو یہ درود شریف پڑھے"۔ تشریح: سبحان اللہ! درود شریف کی برکت سے کس قدر اعمال میں وزن پیدا ہوگا

۱۵ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

لے اللہ درود نازل فرمایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ

تو نے درود نازل فرمایا سیدنا ابراہیمؑ اور آل سیدنا ابراہیمؑ پر اور برکت نازل فرما

عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی

اِبْرٰهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

حضرت ابراہیمؑ پر اور رحمت بھیج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

جس طرح تو نے رحمت بھیجی سیدنا ابراہیمؑ اور سیدنا ابراہیمؑ


اِبْرٰهِيْمَ \* (طبری)

کی اولاد پر۔

۱۶ ارشاد فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو شخص یہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن میں

اس کیلئے گواہی دوں گا اور شفاعت کروں گا۔“ (اے اللہ تمام قارئین کرام کو اور اس کتاب کی طباعت

میں معاونت کرنے والوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما)



۱۶ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جس طرح

صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

تو نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر درود نازل فرمایا، بے شک تو

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ستودہ صفات بزرگ ہے، اے اللہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر

اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

برکت نازل فرما جس طرح تو نے سیدنا ابراہیمؑ اور سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد پر

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى

برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے، اے اللہ تو رحمت بھیج

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى

سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جس طرح تو نے

۱۷ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ پر درود بھیجنا چل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے

اور جو شخص جمعہ کے دن اسی (۸۰) دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے اسی (۸۰) سال کے گناہ

معاف ہو جاتے ہیں۔“ (نوٹ: یہ درود پاک کتاب کے صفحہ نمبر ۳۳ پر ملاحظہ فرمائیں)

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ،

حضرت سیدنا ابراہیمؑ اور سیدنا ابراہیمؑ کی اولاد پر رحمت بھیجی، بیشک تُو ستودہ صفات بزرگ ہے

اللَّهُمَّ تَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر محبت آمیز شفقت فرما جس طرح

تَحَنَّنْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

تُو نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر محبت آمیز شفقت فرمائی، بے شک تو

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ سلام بھیج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ

آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (سعایہ)

اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر سلام بھیجا، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے

حدیث شریف میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو قیامت کے روز وہ مجلس اُن لوگوں کے حق میں باعثِ حسرت ہوگی۔

(اے اللہ! اس حسرت سے ہم سب کو محفوظ فرما اور ہمیں درود شریف کی قدر نصیب فرما)





۱۷ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ

اے اللہ درود نازل فرما سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور برکت و

وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ

سلا بھیج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اور رحمت فرما

مُحَمَّدًا وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جیسا تو نے درود و برکت

وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

و رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیمؑ اور آل سیدنا ابراہیمؑ پر

فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَسِيْدٌ مَّجِيْدٌ \* (سعایہ)

سارے جہانوں میں، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱۸ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود نازل فرما جس طرح

۱۷ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص ہر روز سو مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی

سوجا جات پوری کی جائیں گی جن میں سے تیس دنیا میں اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی“

۱۸ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود

صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
تو نے حضرت ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ کی اولاد پر درود نازل فرمایا، بے شک تو

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ  
ستودہ صفات بزرگ ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے سیدنا ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ کی اولاد پر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (سبحہ ۲۰)

برکت نازل فرمائی، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۱۹ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا

اے اللہ اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جیسا کہ

صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

تو نے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر درود نازل فرمایا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے  
گا، اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور دس برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ ۱۹ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ”جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا“



وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ \* (نسائی)

آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر برکت نازل فرمائی

۲۰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ

اے اللہ درود نازل فرمائی اُمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ

اولاد پر درود نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ پر درود نازل فرمایا اور برکت نازل فرما

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

نبی اُمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ پر برکت نازل فرمائی،

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (نسائی)

بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۲۱ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ

اے اللہ اپنے (برگزیدہ) بندے اور اپنے رسول نبی

۲۰ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جاوے تو

اسی سال کے گناہ اس کے محو ہو جاتے ہیں“ ۲۱ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو شخص

سات جمعے تک ہر جمعہ کو سات بار اس درود شریف کو پڑھے، اس کیلئے میری شفاعت واجب ہوگی“

الرُّمِّي وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

اُمی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود نازل فرمائے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَوَلَهُ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ایسا درود نازل فرما جو تیری رضا کا ذریعہ ہو اور

جَزَاءً وَوَلِیْحِقَّهٗ اَدَاءٌ وَّاَعْطِهٖ الْوَسِیْلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا بدلہ ہو اور آپ کے حق کی ادائیگی ہو اور آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور

وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدْتَهُ وَاَجْزِلَهٗ عَنَّا

مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے عطا فرما، اور

مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاَجْزِلَهٗ اَفْضَلَ مَا جَا زَيْتٌ نَّبِیًّا عَن

حضور کو ہماری طرف سے ایسی نعمت عطا فرما جو آپ کے شانِ نبی کے لائق ہو اور آپ کو ان سے افضل عطا فرما جو تو نے کسی نبی کے

قَوْمِهٖ وَرَسُوْلًا عَن اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰی جَمِیْعِ

اس کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اُس کو میں خود

سنتا ہوں اور جو مجھ سے فاصلہ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے یعنی بذریعہ ملائکہ کے۔

(خداوند کریم ہم سب کو صحت و قبولیت اور ادب کے ساتھ بار بار درودِ رسول ﷺ پر حاضری نصیب فرمائے)



إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ (بخاری)

برادران انبیاء و صالحین پر اے ارحم الرحیم درود نازل فرما۔

۲۲ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ

لے اللہ درود نازل فرما نبی اُمّی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جیسا تو نے روڈ نازل فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر

وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

اور برکت نازل فرما نبی اُمّی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

جیسا تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ \* (مسند احمد، بیہقی)

بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۲۳ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ اس درود کو لے

لیکر مجھ تک پہنچاتا ہے۔“ تشریح: کس قدر خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے درود پاک کو ملائکہ اُن

کے نام لیکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔



۲۳ **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا**

لے اللہ درود نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھر والوں پر جیسا

**صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،**

تو نے حضرت ابراہیم پر درود نازل فرمایا، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ**

لے اللہ ہمارے اُپر ان کے ساتھ درود نازل فرما لے اللہ برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

**وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ**

اور آپ کے گھر والوں پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر بے شک تو

**حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ صَلَوَاتُ**

ستودہ صفات بزرگ ہے، لے اللہ ہمارے اُپر ان کے ساتھ برکت نازل فرما اللہ تعالیٰ کے بکثرت درود

**اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ \* (داؤدنی)**

اور مؤمنین کے بکثرت درود نبی اُمّی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں

۲۴ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجئے کی، یقیناً وہ پاکیزگی

ہے واسطے تمہارے، یعنی بسبب درود کے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری و باطنی، جانی و مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔“ (سبحان اللہ! کس قدر فضیلت والے ہیں درود شریف پڑھنے والے حضرات)

۲۴ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى

اے اللہ اپنے درود اور اپنی رحمت اور اپنی برکتیں

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اٰلِ

سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر نازل فرما جیسا تو نے حضرت

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى

ابراہیمؑ کی اولاد پر فرمایا، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے اور برکت فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جیسا تو نے برکت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیمؑ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ \* (مسند احمد)

اور حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر، بے شک تو ستودہ صفات بزرگ ہے۔

۲۵ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ \* (نسائی شریف)

اور اللہ تعالیٰ درود شریف نازل فرمائیں نبی اُمّی پر۔

۲۴ آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں میں اُس کے سلام کا جواب دیتا ہوں“

۲۵ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے ”جو مومن شب جمعہ میں دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ۳۵ مرتبہ

سورۃ اخلاص پڑھے اسکے بعد ہزار مرتبہ یہ دُرد شریف پڑھے، اگلا جمعہ نہیں آئے گا کہ اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی“

## صِنْعُ السَّلَامَةِ

۲۶ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ

ساری عباداتِ قولیہ اور عباداتِ بدنیہ اور عباداتِ مالیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سلام ہو آپ پر

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ

لے نبی اور اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، سلام ہو ہم پر اور

عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* (بخاری شریف)

اور شہادت دیتا ہوں کہ بے شک سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند اور اس کے رسول ہیں

۲۷ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

ساری عباداتِ قولیہ، عباداتِ مالیہ، عباداتِ بدنیہ اللہ کے لیے ہیں انے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام

۲۸ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے

عرض کیا ہاں! ارشاد ہوا کہ محمد ﷺ پر درود کی کثرت کیا کرو" ۲۷ ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے "اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کیلئے ہیں کہ سیاحی کرتے رہتے ہیں اور شخص





اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ

اور اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں نازل ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور

عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدٌ لَّأَوْرَسُولُهُ \* (نسائی شریف)

اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں

۲۸ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

تمام عباداتِ قولیہ، مالیہ، بدنیہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے جہتی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اور

اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ

اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں نازل ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور

عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ کے نیک بندوں پر میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ،

میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں“ ۲۸ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں جبریلین سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اُس پر رحمت بھیجوں گا اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا میں نے یسین کر سجدہ شکر لڑا کیا“



اللَّهُ وَحْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور شہادت دیتا ہوں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَبْدًا وَسَرَّسُوْلُهُ \* (نسائی شریف)

اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۲۹ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ

ساری بابرکت عباداتِ قولیہ، عباداتِ بدنیہ، عباداتِ مالیہ اللہ کے لیے ہیں۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں

سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ

سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ بیشک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے

۲۹ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو شخص صبح کے وقت مجھ پر دس (۱۰) بار درود

بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی دس (۱۰) بار درود بھیجے، قیامت کے روز اس کیلئے میری شفاعت ہوگی۔“

تشریح: سبحان اللہ! اس حدیث پاک میں بشارت ہے حسنِ خاتمہ کی۔



وَسْؤْلُهُ \* (نسائی شریف)

اور اس کے رسول ہیں۔

۳۰ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے شروع کرتا ہوں ساری عبادت تو لینی عبادت بدنیہ اور

الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

عبادتِ عالیہ اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر لے نبی اور اللہ کی رحمت

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ

اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی، سلام ہو۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بی شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم

عَبْدٌ لَا وَسْؤْلُهُ أَسْأَلُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ

اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ سے میں جنت کی درخواست کرتا ہوں اور جہنم سے

۳۰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس

پر درود بھیجتے رہیں گے، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا“ تشریح: قارئین کرام آنحضرت ﷺ کا نام

مبارک خود لکھیں یا طبع کروائیں اس کے ساتھ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ضرور لکھا کریں، بڑی برکت ہوگی۔

مِنَ النَّارِ \* (نسائی شریف)

اللہ کی پناہ چاہتا ہوں

۳۱) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّكَايَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ

پاکیزہ عباداتِ قلوبیہ، عباداتِ مالیہ، عباداتِ بدنیہ اللہ کے لیے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں،

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ

ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، میں شہادت دیتا ہوں

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور

رَسُولُهُ \* (موطا)

اُس کے رسول ہیں۔

۳۲) ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے

ہیں یعنی اس کیلئے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، اب اختیار ہے خواہ کم

درود بھیجو مجھ پر یا زیادہ۔ (مقصود یہ ہے کہ درود بکثرت پڑھنا چاہئے، بہت بڑی دولت ہے)

۳۲ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ

اللہ کے نام سے شروع کرنا ہوں اور اللہ کی ہی توفیق سے جو سارے کاموں میں سب سے بہتر نام ہے سب سے زیادہ تواریخ عبادتِ مالمیہ

الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدًا لَا

عبادت بذنیہ اللہ کے لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمنا ہے

شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند اور اس کے رسول ہیں

اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ

آپ کی حق سچا تھو ذرا بزرگوں کے لیے خوشخبری دینا والا اور نافرمانوں کے لیے ڈرنا والا بنا کر بھیجا اور اسے بالی گواہی دیتا

لَا رَيْبَ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

ہوں کہ قیامت تک والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سلام ہو آپ کے نبی اور اللہ کی رحمت اور

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ،

اس کی برکتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر

۳۲ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”جو شخص مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھے، نہ مرے گا جب

تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھے“۔ تشریح: اللہ اکبر! شاید اتنی بڑی فضیلت کسی اور عمل پر نہیں مل سکتی لہذا

کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي \* (تمہہ پرانی)

اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ کو ہدایت دے۔

۳۳ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمَلِكُ اللَّهُ السَّلَامُ

ساری عباداتِ قولیہ، عباداتِ مالیہ اور عباداتِ بدنیہ اور ملک اللہ کے لیے ہے۔ سلام ہو

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ \* (ابوداؤد)

آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔

۳۴ بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ اللَّهُ الصَّلَوَاتُ اللَّهُ الزَّكَايَاتُ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ساری عبادتِ قولیہ اللہ کے لیے ہیں ساری عبادتِ بدنیہ اللہ کے لیے ہیں ساری پاکیزہ عبادت

بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ

اللہ کے لیے ہیں سلام ہو نبی پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لَا

ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر نہیں نے اس بات کی گواہی دی کہ بلاشک

۳۵ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”قیامت کے ہول اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات

پاوے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا“ ۳۶ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص مجھ

پر درود صرف نہیں پڑھتا وہ بڑا نیک ہے“ (درود پاک کا پڑھنا دنیا و آخرت کے ہولناک مناظر سے نجات کا ذریعہ ہے)



إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ \* (موطا)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں نے گواہی ہی کہ بلاشبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

۲۵ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الرَّاٰكِيَاتُ لِلَّهِ

ساری عبادتِ قولیہ عبادتِ اعمالیہ، عبادتِ بدنیہ داور، ساری پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ

میں شہادت دیتا ہوں کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک

مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں سلام ہو آپ پر بے نبی اور

النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ \* (موطا)

اللہ کے نیک بندوں پر۔

۳۵ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دُعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے

اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ تشریح: قارئین کرام ایہ عادت بنائیں کہ ہماری کوئی بھی دعا درود پاک سے خالی نہ ہو، ہر دعا کے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا جائے۔

۳۶ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ

ساری عبادتِ قولیہ، مالیہ اور عبادتِ بدنیہ دوسری یا کمیزگیوں کے لیے ہیں میں شہادت دیتا ہوں

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَ

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور

رَسُولُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اُس کے رسول ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ \* (موطا)

سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

۳۷ التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

تمام عبادتِ قولیہ، بدنیہ، مالیہ اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ

اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور

۳۸ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمام دُعائیں زکی رہتی ہیں جب تک محمد ﷺ اور آپ

کی آل پر درود نہ پڑھو ۳۹ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے

فرمایا، جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اُس کا نام لے۔ اس نے محمد ﷺ کہا اسی وقت سُن اتر گئی۔





اللَّهُ الصَّالِحِينَ \* (طحاوی شریف)

اللہ کے نیک بندوں پر۔

۳۸ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ

تمام عباداتِ قولیہ، بدنیہ، مالیہ اللہ کے لیے ہیں سلام ہو آپ پر

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ

لے نبی اور اللہ کی رحمت ہو۔ سلام ہو ہم پر اور

اللَّهُ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ

اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدٌ لَا وَرَءُ سُوْلُهُ \* (ابوداؤد)

دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں

۳۹ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ

ساری بابرکت عباداتِ قولیہ، عباداتِ بدنیہ، عباداتِ مالیہ اللہ کے لیے ہیں

۳۸ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا آپ نے یہی عمل کیا۔ اسی وقت سُن اتر

گئی۔ (حاجہ جیسن از ماہ الفوائد) ۳۹ حدیثوں میں نمازِ حاجت تمام حوائج پوری ہونے کیلئے آئی

ہے اس میں بھی بعد نماز کے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو درود شریف کو کامیابی حوائج میں بڑا دخل ہے

شاعر رسولؐ، سیدنا حسان ابن ثابتؓ

وَ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي  
میری آنکھوں نے کبھی آپؐ سے زیادہ حین نہیں، دیکھا  
وَ أَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ  
عورتوں نے آپؐ سے زیادہ کوئی صاحبِ جمال نہیں، جنانہ  
خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ  
آپؐ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے  
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ  
جیسے آپؐ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ  
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کے دن نمازِ عشاء کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ۸۰ مرتبہ یہ وردِ شریف پڑھے اُس کے ۸۰ سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ۸۰ سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائیگا

# اسماء النبی ﷺ

احمد	حامد	محمد	قاسم	عاقب	فاج	عبد	خالد
سید	مشیر	بشیر	نذیر	ذاع	شعنا	هاد	مہنا
ماخ	میخ	نشاہ	رسول	بسی	امی	ہامی	ہامی
اطحی	عزیز	حریص	رؤف	رحیم	طہ	محب	طہ
رضوی	حب	طہ	یسر	اولی	مزنک	ولی	مذکر
مبین	مصداق	طیب	جلد	صفا	امین	حجاز	حجاز
زاری	قرنی	مصعب	نبی	عطاء	کلام	ظہیر	امین
اللہ	کلید	الرحمن	محمد	صالح	علاء	حسب	محمد
شکر	ضیاء	السبح	قوی	حکم	تامون	معدا	محمد
سین	مطیع	سیر	ارواح	اخیر	طہ	طہ	الرحمن
سید	سید	حکیم	الحکام	سید	سید	منیر	مؤمن
مکرم	بشیر	مذکر	مطہ	قریب	حکیم	مکرم	بجواد
عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم	عالم

Design-Angles: Khawaja Afzal Kamal, 6307031-32